

Lev

Chapter 14

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
اور-فرمایا یہوواہ نے سے موسیٰ کو
H1696 H3068 H0413 H4872 H0559

کہا، سے موسیٰ نے رب

2 זֹאת תִּהְיֶה תּוֹרַת הַשְּׂרֵיטָה הַמְצֻלָּה בְּיוֹם מִחוּץ אֶל-תּוֹרַת הַכֹּהֵן:
یہ ہوگی شریعت کوڑھی-کی میں-دن پاکیزگی-اُس-کی-کے اور-لایا-جائے کے کاہن
H2063 H1961 H8451 H6879 H3117 H2893 H0935 H0413 H3548

جائے لایا پاس کے امام اُسے تو بے کرانا صاف پاک اُسے اور پائے شفا سے بیماری جلدی شخص کوئی اگر

3 וַיֵּצֵא אֶת-הַכֹּהֵן אֶל-מַחוּץ לְמַחֲנֵה לְשֹׁכְרֵי-גַחַל מִחוּץ אֶל-הַכֹּהֵן:
اور-نکلے کاہن کے کاہن کے باہر لشکرگاہ-سے اور-دیکھے گا اور-دیکھو ٹھیک-ہو گیا-بے وبا کوڑھ-کا
H3318 H3548 H0413 H2351 H4264 H7200 H3548 H2009 H7495 H5061 H6883

مَنْ הִצְרִיעַ:
سے کوڑھی
H6879

بے گئی ہو بحال واقعی صحت کی مریض کہ دیکھے وہ اگر کرے۔ معائنہ کا اُس کر جا باہر کے گاہ خیمہ جو

4 וַיִּצְוֶה הַכֹּהֵן וְלָקַח לְמִשְׁחֵהוּ שְׁנֵי-צִפְרִים חַיִּים וְצִפּוֹרִים חַיִּים:
اور-حکم-دے گا کاہن اور-لے گا لے-پاک-ہونے-والے-کے دو چڑیاں چڑیاں زندہ اور-لکڑی کی دیودار-کی
H6680 H3548 H3947 H2891 H8147 H6833 H2889 H6086 H0730

וְשָׂנִי אֶת-זוּפָא:
اور-سرخ کیڑے-کی اور-زوفہ
H8144 H0231

منگوائے۔ زوفہ اور دھاگا کا رنگ قرمزی لکڑی، کی دیودار پرندے، پاک اور زندہ دو لے کے اُس امام تو

5 וַיִּצְוֶה הַכֹּהֵן וְשָׂחַט אֶת-הַצִּפּוֹרִים אֶת-הַצִּפּוֹרִים אֶת-הַצִּפּוֹרִים:
اور-حکم-دے گا کاہن اور-ذبح-کرے کو چڑیا چڑیا میں چڑیاں چڑیاں زندہ اور-لکڑی کی پانی
H6680 H3548 H0853 H6833 H0259 H0413 H3627 H2789 H4325

חַיִּים:
تازے

جائے۔ کیا ذبح اوپر کے برتن کے مٹی ہوئے بھرے سے پانی تازہ کو ایک سے میں پرندوں پر حکم کے امام

6 אֶת-הַצִּפּוֹרִים הַחַיִּים יָקַח אִתָּהּ אֶת-עֵץ לְקָח אֶת-הַצִּפּוֹרִים:
کو چڑیا زندہ لے گا اُسے اور-کو لکڑی دیودار-کی اور-کو سرخ کیڑے-کی اور-کو
H0853 H6833 H3947 H0853 H0853 H6086 H0730 H0853 H8144

הָאֵזֶב זוּפָא וְטָבַל אֹתָם וְאֶת-הַצִּפּוֹרִים הַחַיִּים:
زوفہ اور-ڈبوئے اُنہیں اور چڑے چڑے میں-خون چڑے چڑے ذبح-کیے-ہوئے پانی تازے
H0231 H2881 H0853 H0853 H6833 H1818 H6833 H4325

پانی کے برتن کے مٹی جو دے ڈبو میں خون اُس کے پرندے گئے کئے ذبح ساتھ کے زوفہ اور دھاگے کے رنگ قرمزی لکڑی، کی دیودار کو پرندے زندہ امام بے-گیا آ میں

7	וְהִזָּה	עַל	הַמִּטְהָר	מִן-	הַצֵּרֶעַת	שִׁבַּע	פְּעָמִים	וְטָהָרוּ	וְשָׁלַח
	اور-چھڑکے گا	پر	پاک-ہونے-والے	سے	کوڑھ	سات	بار	اور-پاک-ٹھہرائے گا-اُسے	اور-چھوڑے گا
	H1961		H2891		H6883	H7651	H6471	H2891	H7971

אֶת- הַצֵּרֶעַת הַחַיָּה עַל- פְּנֵי הַשָּׂדֶה:
 کو چڑے زندہ پر سامنے میدان-کے
[H0853](#) [H6833](#) [H6440](#)

دے۔ چھوڑ میں میدان کھلے کو پرندے زندہ پھر دے، قرار پاک اُسے کر چھڑک پر شخص والے ہونے پاک بار سات خون ہوا ملایا سے پانی وہ

8	וְכִבֵּס׃	הַמִּטְהָר	אֶת-	בְּגָדָיו	וְגִלְחָה	אֶת-	כָּל-	שְׁעָרוֹ	וְרַחֵץ	בְּמַיִם
	اور-دھوئے	پاک-ہونے-والا-نے	کو	کپڑوں-اپنے	اور-مونڈے	کو	سب	بالوں-اپنے	اور-دھوئے	میں-پانی
	H3526	H2891	H0853		H1548	H0853	H3605	H8181	H7364	H4325

וְטָהָר וְאַחַר יָבוֹא אֵל- הַמִּנְחָה וַיִּשָּׁב מַחֲוִיץ לְאֶחָד׃
 اور-پاک-ہوگا اور-بعد آئے گا میں لشکرگاہ اور-رہے گا بابر سے-خیمے-اپنے سات دن
[H2891](#) [H0935](#) [H0413](#) [H4264](#) [H3427](#) [H2351](#) [H0168](#) [H7651](#) [H3117](#)

بے سکتا ہو داخل میں گاہ خیمہ وہ اب ہے۔ پاک وہ بعد کے اس لے۔ نہ اور منڈوائے بال تمام اپنے دھوئے، کپڑے اپنے وہ بے ربا کرا صاف پاک کو آپ اپنے جو سکتا۔ جا نہیں میں ڈیرے اپنے دن سات مزید وہ اگرچہ

9	וְהִיָּה	בַּיּוֹם	הַשְּׂבִיעִי	וְגִלְחָה	אֶת-	כָּל-	שְׁעָרוֹ	אֶת-	רֵאשׁוֹ	וְאֶת-	זָקְנוֹ
	اور-ہوگا	میں-دن	ساتویں	مونڈے گا	کو	سب	بالوں-اپنے	کو	سر-اپنے	اور-کو	داڑھی-اپنی اور
	H1961	H3117	H7637	H1548	H0853	H3605	H8181	H0853	H0853	H2206	H0853

זָבַת בָּהוּבוֹת אֲנֵכּוֹת-אִפְּנֵי-כִי- אֶת- כָּל- שְׁעָרוֹ וְגִלְחָה וְכִבֵּס אֶת- בְּגָדָיו וְרַחֵץ אֶת-
 بھوبوں آنکھوں-اپنی-کی اور-کو سب بالوں-اپنے مونڈے گا اور-دھوئے کو کپڑوں-اپنے اور-دھوئے کو
[H1354](#) [H0853](#) [H3605](#) [H8181](#) [H1548](#) [H3526](#) [H0853](#) [H7364](#) [H0853](#)

בְּשָׂרוֹ בְּמִים וְטָהָר׃
 گوشت-اپنے میں-پانی اور-پاک-ہوگا
[H1320](#) [H4325](#) [H2891](#)

ہے۔ پاک وہ تب لے۔ نہ اور دھوئے کپڑے اپنے وہ منڈوائے۔ بال تمام باقی اور ابرو اپنے داڑھی، اپنی بال، کے سر اپنے دوبارہ وہ دن ساتویں

10	וּבְיָוִם	הַשְּׁמִינִי	יִקַּח	שְׁנֵי-	כִבְשִׁים	הַמִּיָּמִים	וְכִבְשָׁה	אֶחָת	בֵּת-	שְׁנָתָה	הַמִּיָּמָה
	اور-میں-دن	آٹھویں	لے گا	دو	بھیڑے	بے-عیب	اور-بھیڑے	ایک	بچی	سال-اُس-کا	بے-عیب
	H3117	H8066	H3947	H8147	H3532	H8549	H3535	H0259	H1323	H8141	H8549

וְשָׁלַחַה אֶת-עֶשְׂרֵינִים מִדָּבָר מִדָּבָר מִדָּבָר מִדָּבָר מִדָּבָר
 اور-تین دسویں-حصے میدا نذر-کی-قربانی ملی-ہوئی بلوگہ میں-تیل اور-لاگ ایک تیل-کا
[H7969](#) [H6241](#) [H5560](#) [H4503](#) [H8081](#) [H3849](#) [H0259](#) [H8081](#)

گرام کلو 4 ساڑھے گیا ملایا ساتھ کے تیل لے کے نذر کی غلہ وہ ہی ساتھ ہوں۔ بے عیب جو لے چن بھیڑ سالہ یک ایک اور بچے نر کے بھیڑ دو وہ دن آٹھویں لے۔ تیل لٹر ملی 300 اور میدہ بہترین

11	וְהָעֲמִיד	הַכֹּתֵן	הַמִּטְהָר	אֶת	הָאִישׁ	הַמִּטְהָר	וְאֶת־	לְבָנָי	יְהִיָּה	פְּתַח
	اور-کھڑا-کرے گا	کاہن	پاک-کرنے-والا	کو	آدمی	پاک-ہونے-والے	اور-انہیں	سامنے	یہوواہ-کے	دروازے
	H5975	H3548	H2891	H0853	H0376	H2891	H0853	H6440	H3068	H6607

אֶחָד מוֹעֵד׃
 خیمہ اجتماع-کے
[H0168](#) [H4150](#)

کرے۔ پیش کو رب پر دروازے کے خیمے کے ملاقات سمیت قربانیوں ان اُسے وہ دیا قرار پاک اُسے نے امام جس پھر

12	וְלֶקַח	הַזֶּהוּן	אֶת-	הַכֶּבֶשׂ	הָאֶזְרָח	וְהַקָּרִיב	אֹתוֹ	לֶאֱשֶׁם	וְאֶת-	לֶגַע	הַשֶּׁמֶן
	اور-لے گا	کابن	کو	بھیڑ	ایک	اور-گزرانے گا	اُسے	لئے-جرم-کی-قربانی-کے	اور-کو	لاگ	تیل-کے
	H3947	H3548	H0853	H3532	H0259	H7126	H0853	H0817	H0853	H3849	H8081

وְהִנִּיף	אֹתָם	תְּנוּפָה	לְפָנֵי	יְהוָה:
اور-ہلائے گا	انہیں	بلانے-کی-قربانی	سامنے	یہوواہ-کے
H0853		H8573	H6440	H3068

بلائے۔ سامنے کے رب پر طور کے قربانی والی بلانے انہیں امام ہے۔ لئے کے قربانی کی قصور تیل لٹر ملی 300 اور بچہ نر ایک کا بھیڑ

13	וְשָׁחַט	אֶת-	הַכֶּבֶשׂ	בְּמִקְוֹם	אֲשֶׁר	יִשְׁחַט	אֶת-	הַחֲטָאת	וְאֶת-	הַעֲלָה
	اور-ذبح-کرے گا	کو	بھیڑ	میں-جگہ	جہاں	ذبح-کرے	کو	گناہ-کی-قربانی	اور-کو	سوختنی-قربانی
	H0853	H0853	H3532	H4725			H0853		H0853	

בְּמִקְוֹם	הַקֹּדֶשׁ	זֵי	כְּחֲטָאת	הָאֲשֶׁם	הוּא	לֶכְהֵן	קֹדֶשׁ	קִדְשִׁים	הוּא:
میں-جگہ	مقدس	کیونکہ	جیسے-گناہ-کی-قربانی	جرم-کی-قربانی	یہ-یہ	لئے-کابن-کے	قدس	افداس	یہ-یہ
H4725	H6944		H0817	H0817	H1931	H3548	H6944	H6944	H1931

کی قربانیوں کی گناہ ہیں۔ جاتی کی ذبح قربانیاں والی ہونے بھسم اور قربانیاں کی گناہ جہاں کرے ذبح پر دروازے کے خیمے کو بچے اس کے بھیڑ وہ پھر ہے۔ مقدس نہایت اور ہے حصہ کا امام قربانی یہ کی قصور طرح

14	وְלֶקַח	הַזֶּהוּן	מִדָּם	הָאֲשֶׁם	וְנָתַן	הַזֶּהוּן	עַל-	תְּנוּפָה	אֵזֶן	הַמִּטְהָר
	اور-لے گا	کابن	سے-خون	جرم-کی-قربانی-کے	اور-لگائے گا	کابن	پر	نرمی	کان	پاک-ہونے-والے-کے
	H3947	H3548	H1818	H0817	H5414	H3548		H8571	H0241	H2891

הִימְנִית	וְעַל-	בְּהֵן	יָדוֹ	הִימְנִית	וְעַל-	בְּהֵן	רִגְלוֹ	הִימְנִית:
دائیں	اور-پر	انگوٹھے	باتھ-اُس-کے	دائیں	اور-پر	انگوٹھے	پاؤں-اُس-کے	دائیں
H3233	H0931	H3027	H3233	H0931	H0931	H0931	H7272	H3233

لگائے۔ پر انگوٹھوں کے پاؤں دبنے اور ہاتھ دبنے کے اُس اور پر لو کی کان دبنے کے والے ہونے پاک کر لے کچھ سے میں خون امام

15	وְלֶקַח	הַזֶּהוּן	מִלֶּגַע	הַשֶּׁמֶן	וַיִּצַק	עַל-	כֶּהָ	הַשְּׂמֵאלִית:
	اور-لے گا	کابن	سے-لاگ	تیل-کے	اور-ڈالے گا	پر	بتھیلی	کابن-کی
	H3947	H3548	H3849	H8081	H3332		H3709	H8042

ڈالے۔ پر بتھیلی کی ہاتھ بائیں اپنے کر لے کچھ سے میں تیل لٹر ملی 300 وہ اب

16	וְטָבַל	הַזֶּהוּן	אֶת-	אֲצָבָעוֹ	הִימְנִית	מִן-	הַשֶּׁמֶן	עַל-	כֶּהָ
	اور-ڈبوئے گا	کابن	کو	انگلی-اپنی	دائیں	سے	تیل	پر	بتھیلی-اُس-کی
	H2881	H3548	H0853	H0676	H3233		H8081		H3709

הַשְּׂמֵאלִית	וְהִנִּיף	מִן-	הַשֶּׁמֶן	בְּאֲצָבָעוֹ	שֶׁבַע	פְּעָמִים	לְפָנֵי	יְהוָה:
بائیں	اور-چھڑکے گا	سے	تیل	سے-انگلی-اپنی	سات	بار	سامنے	یہوواہ-کے
H8042			H8081	H0676	H7651	H6471	H6440	H3068

چھڑکے۔ سامنے کے رب بار سات اُسے وہ کر ڈبو میں تیل اس انگلی والی ساتھ کے انگوٹھے کے ہاتھ دبنے اپنے

17	וּמִיָּתֵר	הַשֶּׁמֶן	אֲשֶׁר	עַל-	כֶּהָ	יָתֵן	הַזֶּהוּן	עַל-	תְּנוּפָה	אֵזֶן
	اور-سے-باقی	تیل	جو	پر	بتھیلی-اُس-کی	لگائے گا	کابن	پر	نرمی	کان
		H8081			H3709	H5414	H3548		H8571	H0241

הַמִּטְהָר	וְעַל-	בְּהֵן	יָדוֹ	הִימְנִית	וְעַל-	בְּהֵן	רִגְלוֹ	הִימְנִית
پاک-ہونے-والے-کے	اور-پر	انگوٹھے	باتھ-اُس-کے	دائیں	اور-پر	انگوٹھے	پاؤں-اُس-کے	دائیں
H2891	H3233	H0931	H3027	H3233	H0931	H0931	H7272	H3233

עַל	יָדוֹ	הָאֲשֶׁם:
پر	باتھ-اُس-کے	جرم-کی-قربانی-کے
H1818		H0817

یعنی دے لگا پر انگوٹھوں کے پاؤں دبنے اور ہاتھ دبنے کے اُس اور پر لو کی کان دبنے کے والے ہونے پاک کر لے اور کچھ سے میں تیل کے پر بتھیلی اپنی وہ ہے۔ چکا لگا خون کا قربانی کی قصور وہ جہاں پر جگہوں اُس

18	וְהִנּוּחַתָּר	בְּשֶׁמֶן	אֲשֶׁר	עַל-	כֶּה	הַזֶּהֶן	יָדָן	עַל-	רֹאשׁ	הַמִּטְהָר
	اور-باقی	سے-تیل	جو	پر	بتھیلی	کابن-کی	لگائے گا	پر	سر	پاک-ہونے-والے-کے
	H3498	H8081			H3709	H3548	H5414			H2891

وְכִפֵּר
اور-کفارہ-دے گا
لئے-اُس-کے
کابن
ہوواہ-کے
سامنے
لִפְנֵי
H6440
הַזֶּהֶן
H3548
יְהוָה:
H3068

دے۔ کفارہ کا اُس سامنے کے رب کر ڈال پر سر کے والے ہونے پاک تیل باقی کا پر بتھیلی اپنی امام

19	וְעִשָּׂה	הַזֶּהֶן	אֶת-	תְּחִטָּאת	וְכִפֵּר	עַל-	הַמִּטְהָר	מִמִּמְאֹתָיו	וְאַחַר
	اور-کرے گا	کابن	کو	گناہ-کی-قربانی	اور-کفارہ-دے گا	لئے	پاک-ہونے-والے-کے	سے-ناپاکی-اُس-کی	اور-بعد
	H3548	H0853					H2891	H2932	

יִשְׁחַט
ذبح-کرے گا
کو
سوختنی-قربانی
הָעֹלָה:
H0853

کرے۔ ذبح جانور کا قربانی والی ہونے بھسم وہ میں آخر دے۔ کفارہ کا والے ہونے پاک کر چڑھا قربانی کی گناہ امام بعد کے اس

20	וְהָעֹלָה	הַזֶּהֶן	אֶת-	הָעֹלָה	וְאֶת-	הַמִּזְבֵּחַ	וְכִפֵּר	עָלָיו
	اور-چڑھائے گا	کابن	کو	سوختنی-قربانی	اور-کو	نذر-کی-قربانی	اور-کفارہ-دے گا	لئے-اُس-کے
	H5927	H3548	H0853		H0853	H4503	H4196	

הַזֶּהֶן
کابن
اور-پاک-ہوگا
—
H2891
H3548

ہے۔ پاک وہ تب دے۔ کفارہ کا اُس کر چڑھا پر گناہ قربان ساتھ کے نذر کی غلہ اُسے وہ

21	וְאֵם-	גִּל-	הוּא	וְאֵין	יָדָו	מִשְׁנֵת	וְלֶקַח	כֶּבֶשׂ	אֶחָד	אֶשֶׁם	לְתִנּוּפָה
	اور-اگر	غریب	ہے-بہ	اور-نہیں	باتھ-اُس-کا	پہنچتا	اور-لے گا	بھیڑ	ایک	جرم-کی-قربانی	لئے-بلانے-کے
	H1800	H1931	H0369	H3027	H5381	H3947	H3532	H0259	H0817	H8573	

	لئے-کفارہ-دینے-کے	لئے-اُس-کے	اور-دسواں-حصہ	میدان	ایک	ملا-ہوا	میں-تیل	لئے-نذر-کی-قربانی-کے	اور-لاگ
	H6241	H5560	H0259	H8081	H4503	H3849			

שֶׁמֶן:
تیل-کا
H8081

کفارہ کہ بے کافی آئے۔ لے بچہ نہ ایک صرف کا بھیڑ لئے کے قربانی کی قصور وہ پھر تو سکتا چڑھا نہیں قربانیاں یہ باعث کے غربت شخص شفا یاب اگر لٹر ملی 300 اور جائے کیا پیش کر ملا ساتھ کے تیل میدہ بہترین گرام کلو ڈیڑھ لئے کے نذر کی غلہ ساتھ ساتھ جائے۔ بلا یا سامنے کے رب یہی لئے کے دینے تیل۔

22	וְשִׁתִּי	תְּרִים	או	שְׁנֵי	בְּנֵי	יוֹזָה	אֲשֶׁר	תְּשִׁיג	יָדָו	וְהָיָה	אֶחָד
	اور-دو	قمریاں	یا	دو	بچے	کبوتر-کے	جو	پہنچے	باتھ-اُس-کا	اور-ہوگا	ایک
	H8147	H8449	H8147		H3123	H5381	H3027	H1961	H0259		

חֲטָאת
گناہ-کی-قربانی
اور-ایک
سوختنی-قربانی
عֹלָה:
H0259

لئے۔ کے قربانی والی ہونے بھسم کو دوسرے اور لئے کے قربانی کی گناہ کو ایک کرے، پیش کبوتر جوان دو یا قمریاں دو وہ علاوہ کے اس

23	וְהָבִיא	אֹתָם	בַּיּוֹם	הַשְּׁמִינִי	לְטַהֲרָתוֹ	אֶל-	הַזֶּהֱבֵן	אֶל-	פְּתַח	אֶהֱל-
	اور-لائے گا	انہیں	میں-دن	آٹھویں	لے-پاکیزگی-اُس-کی-کے	کے	کابن	کے	دروازے	خیمہ
	H0935	H0853	H3117	H8066	H2893	H0413	H3548	H0413	H6607	H0168

מוֹעֵד	לְפָנַי	יְהוָה:
اجتماع-کے	سامنے	یہوواہ-کے
H4150	H6440	H3068

جائے۔ جو صاف پاک وہ تاکہ آئے لے سامنے کے رب اور پاس کے امام پر دروازے کے خیمے کے ملاقات انہیں وہ دن آٹھویں

24	וְלָקַח	הַזֶּהֱבֵן	אֶת-	כֶּבֶשׂ	הָאֵשֶׁם	וְאֶת-	לֶג	הַשֶּׁמֶן	וְהִנִּיף	אֹתָם	הַזֶּהֱבֵן
	اور-لے گا	کابن	کو	بھیڑ	جرم-کی-قربانی-کے	اور-کو	لاگ	تیل-کے	اور-بلانے گا	انہیں	کابن
	H3947	H3548	H0853	H3532	H0817	H0853	H3849	H8081	H0853	H3548	

תְּנוּפָה	לְפָנַי	יְהוָה:
بلانے-کی-قربانی	سامنے	یہوواہ-کے
H8573	H6440	H3068

بلانے۔ سامنے کے رب پر طور کے قربانی والی بلانے کر لے سمیت تیل لٹر ملی 300 کو بچے کے بھیڑ امام

25	וְשָׁחַט	אֶת-	כֶּבֶשׂ	הָאֵשֶׁם	וְלָקַח	הַזֶּהֱבֵן	מִדָּם	הָאֵשֶׁם	וְנָתַן
	اور-ذبح-کرے گا	کو	بھیڑ	جرم-کی-قربانی-کے	اور-لے گا	کابن	سے-خون	جرم-کی-قربانی-کے	اور-لگانے گا
	H0853	H3532	H0817	H3947	H3548	H1818	H0817	H5414	

עַל-	תְּנוּפָה	אֶזְזוּ-	הַמִּזְבֵּחַ	הִימְנִית	וְעַל-	זֶהֱבֵן	יָדוֹ	הִימְנִית	וְעַל-	זֶהֱבֵן
پر	نرمی	کان	پاک-بونے-والے-کے	دائیں	اور-پر	انگوٹھے	ہاتھ-اُس-کے	دائیں	اور-پر	انگوٹھے
H8571	H0241	H2891	H3233	H0931	H3027	H3233	H0931	H0931		

רַגְלָיו	הִימְנִית:
پاؤں-اُس-کے	دائیں
H7272	H3233

اور ہاتھ دہنے کے اُس اور پر تو کی کان دہنے کے والے بونے پاک کر لے کچھ سے میں خون کے اُس اور کرے ذبح کو بچے کے بھیڑ لے کے قربانی کی قصور وہ لگائے۔ پر انگوٹھوں کے پاؤں دہنے

26	וּמִן-	הַשֶּׁמֶן	יִצַק	הַזֶּהֱבֵן	עַל-	כַּף	הַזֶּהֱבֵן	הַשְּׂמֹאלִית:
	اور-سے	تیل	ڈالے گا	کابن	پر	بتھیلی	کابن-کی	بائیں
	H8081	H3332	H3548	H3709	H3548	H8042		

ڈالے پر بتھیلی کی ہاتھ بائیں اپنے کچھ سے میں تیل لٹر ملی 300 وہ اب

27	וְהִזָּה	הַזֶּהֱבֵן	בְּאֶזְבֵּעוֹ	הִימְנִית	מִן-	הַשֶּׁמֶן	אֲשֶׁר	עַל-	כַּפוֹ	הַשְּׂמֹאלִית
	اور-چھڑکے گا	کابن	سے-انگلی-اپنی	دائیں	سے	تیل	جو	پر	بتھیلی-اُس-کی	بائیں
	H3548	H0676	H3233	H8081	H3709	H8042				

שָׁבַע	פְּעָמִים	לְפָנַי	יְהוָה:
سات	بار	سامنے	یہوواہ-کے
H7651	H6471	H6440	H3068

دے۔ چھڑک سامنے کے رب بار سات اُسے کر ڈبو میں تیل اِس انگلی والی ساتھ کے انگوٹھے کے ہاتھ دہنے اپنے اور

וְנִתַּן	וְהִשְׁמֵן	אֲשֶׁר	עַל-	כִּפּוֹ	עַל-	תְּנוּף	אֵזֶן
اور- لگائے گا	تیل سے	جو	پر	بتھیلی- اُس-کی	پر	نرمی	کان
H5414	H8081			H3709		H8571	H0241

הַמִּטְהָר	הִמְנִיחַ	וְעַל-	זָהָן	וְדוֹ	הִמְנִיחַ	וְעַל-	רִגְלוֹ	הִמְנִיחַ
پاک-ہونے-والے-کے	دائیں	اور-پر	انگوٹھے	باتھ-اُس-کے	دائیں	اور-پر	پاؤں-اُس-کے	دائیں
H2891	H3233		H0931	H3027	H3233		H7272	H3233

עַל-	מְקוֹם	דָּם	הָאֲשֶׁם:
پر	جگہ	خون	جرم-کی-قربانی-کے
H4725	H1818	H0817	

یعنی دے لگا پر انگوٹھوں کے پاؤں دہنے اور ہاتھ دہنے کے اُس اور پر لو کی کان دہنے کے والے ہونے پاک کر لے اور کچھ سے میں تیل کے پر بتھیلی اپنی وہ ہے۔ چکا لگا خون کا قربانی کی قصور وہ جہاں پر جگہوں اُن

וְהַנּוֹתָר	מִן-	הַשֶּׁמֶן	אֲשֶׁר	עַל-	כֶּף	הַזָּהָן	יָהֵן	עַל-	רֶאֶשׁ	הַמִּטְהָר
اور-باقی	سے	تیل	جو	پر	بتھیلی	کابن-کی	لگائے گا	پر	سر	پاک-ہونے-والے-کے
H3498		H8081			H3709	H3548	H5414			H2891

לְכַפֵּר	עָלָיו	לְפָנַי	יְהוָה:
لئے-کفارہ-دینے-کے	لئے-اُس-کے	سامنے	یہوواہ-کے
H6440	H3068		

دے۔ کفارہ کا اُس سامنے کے رب تاکہ دے ڈال پر سر کے والے ہونے پاک وہ تیل باقی کا پر بتھیلی اپنی

וְעִשָּׂה	אֶת-	הָאֶחָד	מִן-	הַתְּמִיִּים	אֹז	מִן-	בִּינֵי	הַיּוֹנָה	מֵאֲשֶׁר	תְּשִׁיג
اور-کرے گا	کو	ایک	سے	قمریوں	یا	سے	بچوں	کبوتر-کے	سے-جو	پہنچے
H0853		H0259		H8449				H3123		H5381

יָדוֹ:
باتھ-اُس-کا
H3027

چڑھائے، کبوتر جوان دو یا قمریاں دو مطابق کے گنجائش کی شخص شفیاب وہ بعد کے اس

אֶת	אֲשֶׁר-	תְּשִׁיג	יָדוֹ	אֶת-	הָאֶחָד	חֲטָאת	וְאֶת-	הָאֶחָד	עֲלָה	עַל-
کو	جو	پہنچے	باتھ-اُس-کا	کو	ایک	گناہ-کی-قربانی	اور-کو	ایک	سوختنی-قربانی	ساتھ
H0853		H5381	H3027	H0853	H0259		H0853	H0259		

הַמִּנְחָה	וְכִפֵּר	הַזָּהָן	עַל	הַמִּטְהָר	לְפָנַי	יְהוָה:
نذر-کی-قربانی-کے	اور-کفارہ-دے گا	کابن	لئے	پاک-ہونے-والے-کے	سامنے	یہوواہ-کے
H4503		H3548		H2891	H6440	H3068

کفارہ کا اُس سامنے کے رب امام یوں کرے۔ پیش نذر کی غلہ وہ ہی ساتھ لے۔ کے قربانی والی ہونے بھسم کو دوسرے اور لئے کے قربانی کی گناہ کو ایک ہے۔ دیتا

זֹאת	תּוֹרַת	אֲשֶׁר-	בּוֹ	יָנַע	צִרְעַת	אֲשֶׁר	לֹא-	תְּשִׁיג	יָדוֹ	בְּתַהֲרָתוֹ:
یہ	شریعت	جس-میں	میں-اُس	وبا	کوڑھ-کا	جس-کا	نہیں	پہنچتا	باتھ-اُس-کا	میں-پاکیزگی-اُس-کی
H2063	H8451			H5061	H6883		H3808	H5381	H3027	H2893

פ

کر نہیں پیش قربانی پوری لئے کے جانے ہو پاک باعث کے غربت اپنی لیکن بے گیا پا شفا سے بیماری جلدی وبائی جو بے لئے کے شخص ایسے اصول یہ سکتا۔

וַיְדַבֵּר	יְהוָה	אֶל-	מֹשֶׁה	וְאֶל-	אַהֲרֹן	לְאַמֵּר:
اور-فرمایا	یہوواہ-نے	سے	موسیٰ	اور-سے	ہارون	کہ
H1696	H3068	H0413	H4872	H0413	H0175	H0559

34	כִּי תִבְאוּ	אֶל-	אֶרֶץ	כְּנָעַן	אֲשֶׁר	אָנִי	זָתַן	לְכֶם	לְאַחֲזָה	וְנִתְּנִי
	جب تم-جاؤ	میں	سرزمین	کنعان	جو	میں	دیتا-ہوں	تمہیں	لئے-ملکیت-کے	اور-ڈالوں-گا-میں
	H0935	H0413	H0776			H0589	H5414		H0272	H5414

וַיָּבֵא	וַיָּבֵא	בְּבֵית	אֶרֶץ	אֶחָזְחֶכֶם:
وہا	وہا	میں-گھر	سرزمین	ملکیت-تمہاری-کی
H5061	H5061	H6883	H0776	H0272

ہے۔ دی پھیلنے پھیلندی نے میں میں جن گے ہوں مکان ایسے وہاں تو گا دوں تمہیں میں جو گے ہو داخل میں کنعان ملک تم جب

35	וּבָא	אֲשֶׁר-	לֹ	הַבַּיִת	וְהִגִּיד	לְכֹהֵן	לְאַמָּר	כְּנָעַן	נִרְאָה	לִי	בְּבֵית:
	اور-آئے	جس-کا	کو-اُس	گھر	اور-بتائے	کو-کابن	کہ	جیسے-وہا	دکھائی-دیا-ہے	مجھے	میں-گھر
	H0935				H5046	H3548	H0559	H5061	H7200		

ہے۔ دیکھی چیز کوئی جیسی پھیلندی میں گھر اپنے نے میں کہ بتائے کو امام کر جا مالک کا گھر ایسے

36	וַצִּוָה	הַכֹּהֵן	וּפְנִי	אֶת-	הַבַּיִת	בְּטָרֶם	יָבֵא	הַכֹּהֵן	לְרִאוֹת	אֶת-	הַנֶּגֶע
	اور-حکم-دے-گا	کابن	اور-خالی-کریں	کو	گھر	سے-پہلے	آئے	کابن	لئے-دیکھنے-کے	کو	وہا
	H6680	H3548	H6437	H0853		H2962	H0935	H3548	H7200	H0853	H5061

וְלֹא	יִטְמָא	כָּל-	אֲשֶׁר	בְּבֵית	וְאַחַר	כֵּן	יָבֵא	הַכֹּהֵן	לְרִאוֹת	אֶת-	הַבַּיִת:
اور-نہیں	ناپاک-ہو	سب	جو	میں-گھر	اور-بعد	ایسا-ہی	آئے-گا	کابن	لئے-دیکھنے-کے	کو	گھر
H3808		H3605					H0935	H3548	H7200	H0853	

جائے دیا قرار ناپاک بھی کو سامان تو جائے دیا قرار ناپاک کو گھر اگر ورنہ جائے۔ نکالا سامان پورا کا گھر پہلے سے کرنے معائنہ کا گھر کہ دے حکم امام تب کرے۔ معائنہ کا مکان کر جا اندر امام بعد کے اس گا۔

37	וְרִאָה	אֶת-	הַנֶּגֶע	וְהִגִּיד	וְהִגִּיד	הַנֶּגֶע	בְּקִירָת	הַבַּיִת	שְׂקֵעֵרוֹתָ	יִרְקַחֲתָ	אוֹ
	اور-دیکھے-گا	کو	وہا	اور-دیکھو	وہا	میں-دیواروں	گھر-کی	گھر-کی	گڑھے	زردی-مائل	یا
	H7200	H0853	H5061	H2009	H5061	H7023			H8258	H3422	

בְּדַמְדַמְתָּ	וּמְרִיאֵיהֶן	שָׁפַל	מִן-	הַקִּיר:
سرخی-مائل	اور-دکھائی-اُن-کی	نیچی	سے	دیوار
H0125	H4758	H8217		H7023

آئیں نظر ہوئی دھنسی اندر کے دیوار اور ہوں سی لال یا بری جگہیں متاثرہ اگر کرے۔ معائنہ کا پھیلندی ہوئی لگی ساتھ کے دیواروں وہ

38	וַיֵּצֵא	הַכֹּהֵן	מִן-	הַבַּיִת	אֶל-	פֶּתַח	הַבַּיִת	וְהִסְגִּיר	אֶת-	שִׁבְעַת	יָמִים:
	اور-نکلے-گا	کابن	سے	گھر	کے	دروازے	گھر-کے	اور-بند-کرے-گا	کو	سات	دن
	H3318	H3548			H0413	H6607		H5462	H0853	H7651	H3117

لگائے۔ تالا لٹے کے دن سات کر نکل سے گھر امام پھر تو

39	וּשָׁב	הַכֹּהֵן	בֵּינוֹם	הַשְּׁבִיעִי	וְרִאָה	וְהִגִּיד	פְּשָׁה	הַנֶּגֶע	בְּקִירָת	הַבַּיִת:
	اور-لوٹے-گا	کابن	میں-دن	ساتویں	اور-دیکھے-گا	اور-دیکھو	پھیلا-ہے	وہا	میں-دیواروں	گھر-کی
	H7725	H3548	H3117	H7637	H7200	H2009	H6581	H5061	H7023	

آئے نظر ہوئی پھیلی پھیلندی اگر کرے۔ معائنہ کا مکان کر آ واپس وہ دن ساتویں

40	וַצִּוָה	הַכֹּהֵן	אֶת-	הָאֲבֹנִים	אֲשֶׁר	בְּהֵן	הַנֶּגֶע	וְהִשְׁלִיכוּ	אֶתְהֶן	אֶל-
	اور-حکم-دے-گا	کابن	اور-نکالیں	کو	جن-میں	میں-اُن	وہا	اور-پھینکیں	انہیں	کے
	H6680	H3548		H0853	H0068		H5061	H7993	H0853	H0413

מְחֹזֵץ	לְעִיר	אֶל-	מְקוֹם	טָמֵא:
باہر	شہر-سے	کے	جگہ	ناپاک
H2351		H0413	H4725	H2931

جائے۔ پھینکا پر جگہ ناپاک کسی باہر کے آبادی کر نکال کو پتھروں متاثرہ کہ دے حکم وہ تو

41	וְאֶת־	הַבַּיִת	יִקְצַע	מִבַּיִת	סָבִיב	וְשִׁפְכוּ	אֶת־	הָעֶפְרָ	אֲשֶׁר	הִקְצִו	אֶל־	מִחוּץ
	اور-کو	گھر	کھرچے	سے-اندر	چاروں-طرف	اور-ڈالیں	کو	مٹی	جو	کھرچی	کے	باہر
	H0853				H5439	H8210	H0853	H6083		H7096	H0413	H2351

لְעִיר
شہر-سے
کے
جگہ
ٹمنا:
ناپاک
[H0413](#) [H4725](#) [H2931](#)

جائے پھینکا پر جگہ ناپاک کسی باہر کے آبادی کو مٹی ہوئی کُریدی اور جائے کُریدا کو دیواروں کی اندر کہ دے حکم وہ نیز

42	وְלִקְחוּ	אֲבִנִים	אֲחֵרוֹת	וְהִבִּיאוּ	אֶל־	תַּחַת	הָאֲבִנִים	וְעִפֵּר	אֲחֵר	יִקַּח	וְטַח
	اور-لیں	پتھر	دوسرے	اور-لائیں	کے	جگہ	پتھروں-کی	اور-مٹی	دوسری	لے	اور-پلستر-کرے
	H3947	H0068	H0312	H0935	H0413	H8478	H0068	H6083	H0312	H3947	

אֶת־ הַבַּיִת:
کو
گھر
[H0853](#)

کریں۔ پلستر سے گارے کو نئے گھر کر لگا پتھر نئے لوگ پھر

43	וְאִם־	יָשׁוּב	הַנֶּנֶע	וּפְרַח	בַּבַּיִת	אֲחֵר	חֲלָץ	אֶת־	הָאֲבִנִים	וְאֲחֵרֵי	הַקְּצוֹת	אֶת־
	اور-اگر	لوٹے	وبا	اور-پھوٹے	میں-گھر	بعد	نکالنے-کے	کو	پتھروں	اور-بعد	کھرچنے-کے	کو
	H7725	H5061				H0853		H0068		H7096	H0853	

הַבַּיִת וְאֲחֵרֵי
گھر اور-بعد
הַטּוֹחַ:
پلستر-کرنے-کے

جائے بو پیدا دوبارہ پھپھوندی باوجود کے اس اگر لیکن

44	וּבֹא	הַכֹּחֵן	וּרְאָה	וְהִנֵּה	פְּשָׁה	הַנֶּנֶע	בַּבַּיִת	צָרַעַת	מִמְאֲרַת	הוּא	בַּבַּיִת
	اور-آئے گا	کابن	اور-دیکھے گا	اور-دیکھو	پھیلا-بے	وبا	میں-گھر	کوڑھ	کھانے-والا	بے-یہ	میں-گھر
	H0935	H3548	H7200	H2009	H6581	H5061		H6883	H3992	H1931	

טָמֵא הוּא:
ناپاک بے-یہ
[H1931](#) [H2931](#)

ناپاک گھر لئے اس ہے، وہ نقصان پھپھوندی کہ بے مطلب کا اس تو بے گئی پھیل میں گھر پھپھوندی کہ دیکھے وہ اگر کرے۔ معائنہ کا اس دوبارہ کر آ امام تو ہے۔

45	וְנָתַן	אֶת־	הַבַּיִת	אֶת־	אֲבִנָיו	וְאֶת־	עִצָיו	וְאֶת־	כָּל־	עֲפָר	הַבַּיִת
	اور-ڈھائے	کو	گھر	کو	پتھروں-اُس-کے	اور-کو	لکڑیوں-اُس-کی	اور	سب	مٹی	گھر-کی
	H5422	H0853		H0853	H0068	H0853	H6086	H0853	H3605	H6083	

וְהוֹצִיא
اور-نکالے
کے
باہر
مחוץ
لְעִיר
شہر-سے
کے
جگہ
ٹمنا:
ناپاک
[H0413](#) [H2351](#) [H3318](#)

جائے پھینکا پر جگہ ناپاک کسی باہر کے آبادی کو پلستر اور لکڑی پتھر، کے اُس یعنی کچھ سب اور جائے دیا ڈھا پر طور پورے اُسے کہ بے لازم

46	וְהִבָּא	אֶל־	הַבַּיִת	כָּל־	יָמֵי	הַסִּנִּיר	אֹתוֹ	יִטְמָא	עַד־	הָעֶרֶב:
	اور-جانے-والا	میں	گھر	سب	دن	بند-کرنے-کے	اُسے	ناپاک-ریے گا	تک	شام
	H0935	H0413		H3605	H3117	H5462	H0853	H5704	H6153	

گا۔ ریے ناپاک تک شام وہ تو جائے ہو داخل میں گھر اُس کوئی بھی پھر اور بے دیا لگا تالا کے کر معائنہ کا گھر کسی نے امام اگر

47	וְהִשְׁכֵּב	בַּבַּיִת	יִכְבֵּס	אֶת־	בְּנָדָיו	וְהִאֲכִיל	בַּבַּיִת	יִכְבֵּס	אֶת־	בְּנָדָיו:
	اور-سوئے-والا	میں-گھر	دھوئے	کو	کپڑوں-اپنے	اور-کھانے-والا	میں-گھر	دھوئے	کو	کپڑوں-اپنے
	H7901		H3526	H0853		H0398		H3526	H0853	

لے۔دھو کپڑے اپنے وہ کہ بے لازم کھائے کھانا یا سوئے میں گھر ایسے جو

48	וְאִם-	בָּא	יָבֵא	הַחֲהִין	וְרָאָה	וְהִנֵּה	לֹא-	פָּשָׁה	הַנֶּנֶע	בְּבֵית	אֲחֵרִי
	اور-اگر	آئے-آئے	آئے	کابن	اور-دیکھے	اور-دیکھو	نہیں	پھیلا-بے	وبا	میں-گھر	بعد
		H0935	H0935	H3548	H7200	H2009	H3808	H6581	H5061		

	הַטָּח	אֶת-	הַבַּיִת	וְטָהַר	הַחֲהִין	אֶת-	הַבַּיִת	כִּי	נִרְפָּא	הַנֶּנֶע:
	پلستر-کرنے-کے	کو	گھر	اور-پاک-ٹھہرائے گا	کابن	کو	گھر	کیونکہ	ٹھیک-ہو گیا-بے	وبا
		H0853		H2891	H3548	H0853			H7495	H5061

کہ بے مطلب کا اس تو نکلی نہیں دوبارہ پھپھوندی کہ دیکھے اور کرے معائنہ دوبارہ کا اُس کر آ امام بعد کے کرنے پلستر سے سرے نئے کو گھر اگر لیکن دے۔قرار پاک اُسے وہ ہے۔ گئی ہو ختم پھپھوندی

49	וְלֶקַח	לְחֶטֶא	אֶת-	הַבַּיִת	שְׁתֵּי	צְפָרִים	וְעֵץ	אֲרוֹז	וּשְׁנֵי	תּוֹלְעֵת	וְאֵזָב:
	اور-لے گا	لئے-پاک-کرنے-کے	کو	گھر	دو	چڑیاں	اور-لکڑی	دیودار-کی	اور-سرخ	کیڑے-کی	اور-زوفَا
	H3947	H2398	H0853		H8147	H6833	H6086	H0730	H8144		H0231

لے۔لے زوفا اور دھاگا کا رنگ قرمزی لکڑی، کی دیودار پرندے، دو وہ لئے کے کرانے صاف پاک سے گناہ اُسے

50	וְשָׁחַט	אֶת-	הַצֶּפֶר	הָאֶחָת	אֶל-	כְּלִי-	חָרָשׁ	עַל-	מַיִם	חַיִּים:
	اور-ذبح-کرنے-کے	کو	چڑیے	ایک	میں	برتن	مٹی-کے	پر	پانی	تازے
		H0853	H6833	H0259	H0413	H3627	H2789		H4325	

کرے۔ذبح اوپر کے برتن کے مٹی ہوئے بھرے سے پانی تازہ کو ایک سے میں پرندوں وہ

51	וְלֶקַח	אֶת-	עֵץ-	הָאֲרוֹז	וְאֶת-	הָאֵזָב	וְאֶת	שְׁנֵי	תּוֹלְעֵת	וְאֶת	הַצֶּפֶר	הַחֲהִיָּה
	اور-لے گا	کو	لکڑی	دیودار-کی	اور-کو	زوفَا	اور	سرخ	کیڑے-کی	اور	چڑیا	زندہ
	H3947	H0853	H6086	H0730	H0853	H0231	H0853	H8144		H0853	H6833	

	וְטָבַל	אֹתָם	בְּדָם	הַצֶּפֶר	הַשְּׁחוּטָה	וּבְמַיִם	הַחַיִּים	וְהִזָּה	אֶל-	הַבַּיִת	שִׁבְעַ
	اور-ڈبوئے	انہیں	میں-خون	چڑیے	ذبح-کیے-ہوئے	اور-میں-پانی	تازے	اور-چھڑکے گا	پر	گھر	سات
	H2881	H0853	H1818	H6833		H4325			H0413	H7651	

سׁَעִמִּים:
بار
[H6471](#)

خون کا پرندے ہوئے کئے ذبح ساتھ کے جس دے ڈبو میں پانی تازہ اُس کر لے پرندہ زندہ اور دھاگا کا رنگ قرمزی زوفَا، لکڑی، کی دیودار وہ بعد کے اس دے۔چھڑک پر گھر بار سات کو پانی اِس اور بے گیا ملایا

52	וְחִטָּא	אֶת-	הַבַּיִת	בְּדָם	הַצֶּפֶר	וּבְמַיִם	הַחַיִּים	וּבְצֶפֶר	הַחֲהִיָּה	וּבְעֵץ
	اور-پاک-کرنے-کے	کو	گھر	سے-خون	چڑیے-کے	اور-سے-پانی	تازے	اور-سے-چڑیے	زندہ	اور-سے-لکڑی
	H2398	H0853		H1818	H6833	H4325		H6833		H6086

	הָאֲרוֹז	וּבְאֵזָב	וּבְשְׁנֵי	הַתּוֹלְעֵת:
	دیودار-کی	اور-سے-زوفَا	اور-سے-سرخ	کیڑے-کے
	H0730	H0231	H8144	

بے۔کرتا صاف پاک سے گناہ کو گھر وہ سے چیزوں اِن

53	וְשָׁחַח	אֶת-	הַחֲהִיָּה	אֶל-	מַחֲוִיץ	לְעִיר	אֶל-	פְּנֵי	הַשָּׂדֶה	וּכְפָר
	اور-چھوڑے گا	کو	زندہ	کے	باہر	شہر-سے	کے	سامنے	میدان-کے	اور-کفارہ-دے گا
	H7971	H0853	H6833	H0413	H2351		H0413	H6440		

עַל-
لئے
گھر-کے
اور-پاک-ہوگا
[H2891](#)

گا۔جائے ہو صاف پاک وہ اور گا، دے کفارہ کا گھر وہ یوں دے۔ چھوڑ میں میدان کھلے باہر کے آبادی کو پرندے زندہ وہ میں آخر

54	זאת	התורה	לכל-	יגע	הצרעת	ולנתק:
	יہ	شریعت	لئے-ہر	وبا	کوڑھ-کے	اور-چھاجن-کے
	H2063	H8451	H3605	H5061	H6883	H5424

داغ، سفید یا پیڑی سوجن، خارش، مثلاً ہوں بیماریاں جلدی وبائی وہ چاہے ہے، گیا کیا بیان جیسے نپٹو ایسے سے بیماری وبائی کی قسم ہر کہ ہے لازم ہو۔ پھوندی میں گھروں یا کپڑوں چاہے

55	ولצרעת	הבגד	ולבית:
	اور-لئے-کوڑھ-کے	کپڑے-کے	اور-گھر-کے
	H6883		

داغ، سفید یا پیڑی سوجن، خارش، مثلاً ہوں بیماریاں جلدی وبائی وہ چاہے ہے، گیا کیا بیان جیسے نپٹو ایسے سے بیماری وبائی کی قسم ہر کہ ہے لازم ہو۔ پھوندی میں گھروں یا کپڑوں چاہے

56	ולשאית	ולספתת	ולבקהרת:
	اور-لئے-سوجن-کے	اور-خارش-کے	اور-داغ-کے
	H7613	H5597	H0934

داغ، سفید یا پیڑی سوجن، خارش، مثلاً ہوں بیماریاں جلدی وبائی وہ چاہے ہے، گیا کیا بیان جیسے نپٹو ایسے سے بیماری وبائی کی قسم ہر کہ ہے لازم ہو۔ پھوندی میں گھروں یا کپڑوں چاہے

57	להורת	ביום	הטמא	וביום	הטהור	זאת	תורת	הצרעת:	ס
	لئے-سکھانے-کے	میں-دن	ناپاک	اور-میں-دن	پاک-کے	یہ	شریعت	کوڑھ-کے	—
	H3117	H2931	H3117	H2889	H2063	H8451	H6883		

ناپاک۔ یا ہے پاک چیز یا شخص کوئی کہ ہے کرنا فیصلہ تحت کے اصولوں ان